

# نقشہ بنانا سیکھو


تم گھر سے نکلتے وقت اپنی گیند لانا بھول گئے اور چاہتے ہو کہ تمہارا دوست بھاگ کر اسے لے آئے۔ اسے تم کو بتانا ہو گا کہ گھر میں گیند کہاں رکھی ہے۔ کیسے بتاؤ گے؟ یہی کہو گے کہ اندر داخل ہوتے ہی باہمیں طرف ٹوکری کے اوپر پڑھے پر رکھی ہے۔ ایسا ہمیں روز کئی بار کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کسی جگہ کا راستہ بتاتے وقت، کسی چیز کی جگہ بتاتے وقت وغیرہ۔ سامنس میں بھی کسی چیز کا مقام بتانے کے لئے کئی طریقہ اپنانے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ تم یہاں سیکھو گے۔

مقام کی نشان دہی: فرض کرو کہ امتحان دینے کے لئے چوہیں طالبات کمرے میں اپنی اپنی جگہ بیٹھی ہیں (شکل-1)۔

- (1) کسی کو سینتا کا مقام بتانا ہو تو کیا کہو گے؟
- (2) تیسرا قطار میں دوسری طالبہ کون ہے؟
- (3) کیا تم سب کے جواب ایک جیسے ہی تھے؟
- (4) اگر کوئی فرق تھا تو اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟

اب اگر ہم یہ طے کریں کہ شکل-1 میں قطاروں کو باہمیں سے دائیں شمار کریں گے اور طالبات کو آگے سے پیچے کی طرف نمبر دیں گے تو کیا سب کا جواب ایک جیسا آئے گا؟ اس بات کو چوخانہ کاغذ (گراف کاغذ) کی مدد سے سمجھتے ہیں (شکل-2)۔

- (5) پہلی قطار کی دوسری طالبہ کون ہے؟



شکل-1


(6)

کاشمی کا مقام کیا ہے؟

(7)

کیا تم سب کا جواب ایک ہی آیا؟

مقام بتانے کے لئے ہم ایک اشارے (نشان) کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم لکھ سکتے ہیں کہ گوری کا مقام ہے (چوتھی قطار، دوسری)۔



مندرجہ ذیل طالبات کا مقام ایسے ہی اشارے (نشان) سے بتاؤ:

(8)

(a) سمن (b) فریدہ (c) شیلا

نیچے دیے اشاروں سے طالبات کے نام معلوم کرو:

(a) تیسرا قطار، دوسرا

(b) پہلی قطار، پانچویں

اعداد میں مقام کی نشان دہی: احکامی اعداد اور بیان کئے گئے مقامات کو ہم مزید چھوٹا کر کے لکھنا چاہیں تو کیا کریں؟ کیوں نہ اعداد کا استعمال کریں؟ اتنے الفاظ سے تو اعداد ہی اچھے ہیں۔ لکھنے میں وقت بھی کم خرچ ہوگا۔ گوری کے مقام کو (چوتھی قطار دوسرا) لکھنے کے بجائے ہم صرف (2, 4) لکھ کر بتاسکتے ہیں۔ صرف یاد رکھنا ہوگا کہ پہلا عدد ہے قطار کے لئے اور دوسرا ہے قطار مخصوص میں طالبہ کے نمبر کے لئے۔

(10) اگر بھول سے ہم گوری کے مقام کو والٹا کر کے (4, 2) لکھ دیں تو کیا غلطی ہوگی؟

اب اعداد میں ان طالبات کے مقام بتاؤ۔

(11) (a) ریحانہ (b) چمیلی (c) فریدہ

مقام بتانے کے لئے ان اعداد کو احکامی اعداد (Coordinates) کہتے ہیں۔ شکل-2 میں نیچے والی موٹی لائن کوافقی محور کہتے ہیں۔ بائیں طرف بنی موٹی کھڑی لائن کو عمودی محور کہتے ہیں۔ احکامی اعداد لکھتے وقت ہم ہمیشہافقی محور والے عدد کو پہلے لکھیں گے، پھر عمودی محور والے۔ شکل-2 دیکھ کر بتاؤ کہ نیچے دیے گئے احکامی اعداد والے نقطوں پر کون سی طالبہ بیٹھی ہے۔

(12) 1,4 (f); 3,1 (e); 2,1 (d); 1,2 (c); 4,4 (b); 4,1 (a)  
درج ذیل طالبات کے اعداد احکامی لکھو۔

(13) (a) ریحانہ (b) نیا (c) رام سکھی

مشق-1: نقطہ لگا کر شکل پہچانو۔

ایک چوخانہ کا غذ (گراف کاغذ) پرافقی محور اور عمودی محور بناؤ۔ نیچے دیے گئے احکامی اعداد کے بارہ نقطے اسی ترتیب میں بناؤ۔

(11,5).7 (10,8).6 (4,4).5 (4,8).4 (3,9).3 (2,8).2 (1,6).1  
(3,7).12 (3,4).11 (5,1).10 (9,1).9 (14,5) 8.

نقطوں کو دیکھ کر کوئی شکل پہچان میں آتی ہے؟ اب اسی ترتیب میں نقطوں کو خط مستقیم سے جوڑلو، کون سی شکل بنی؟

(14)


شکلوں کو چھوٹا بڑا کرنا۔ صحیح پیانا کا انتخاب:

بہت ہوئی احکامی اعداد کی بات۔ اب کچھ دری احکامی اعداد کو چھوڑ کر شکلوں کو گھٹانا بڑھانا سیکھیں۔ شکل-3 میں ایک بلی کی شکل دی ہوئی ہے۔ اس کو ایک چوخانہ کا غذ پر چھوٹا کر کے بناؤ۔ چھوٹا اس طرح کرنا ہے کہ شکل-3 میں بنی بلی کی ہر لائن نصف ہو جائے۔

چوخانے کا غذ کا ہر خانہ 1cm لمبا اور 1cm چوڑا ہے۔

بِتاوَكَه:

- (15) (a) تمہاری چھوٹی بی بی کی دم کی لمبائی کیا ہے؟
- (16) (b) چھوٹی بی بی کے کانوں کے درمیان کتنی دوری ہے؟
- (17) (c) تمہاری بی بی کا پیٹ کتنا چوڑا ہے؟



شکل-3

اس مشق میں تم نے شکل-3 میں دی گئی شکل کی ہر لائے کو نصف کیا۔  
شکل کے ہر ضلع کو تین گناہدا کرنا ہوتا تو کیا کرتے؟  
شکل کو چھوٹا بڑا کرنے میں ایک ہی بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ صحیح پیانا کا انتخاب، اور اس بات

کا دھیان رکھنا کہ دی گئی شکل کے ہر ایک حصے کو اس پیمانے کی بنیاد پر چھوٹا یا بڑا کرنا ہے۔ اسی سے چھوٹا یا بڑا کرنے پر شکل کے ہر حصے کے درمیان وہی تناسب رہے گا جو بنیادی شکل میں تھا۔


شکل-3 کے خاکے کو چھوٹا کرنے میں تم نے کاغذ پر بننے چوخ انوں کی مدد لی ہو گی۔ اگر خانے نہ ہوں تو شکل کو چھوٹا یا بڑا کیسے کریں؟

خانوں کے بغیر شکل کو بڑا کرو:

مشق-1 میں بارہ نقطوں کو ملا کر تم نے ایک شکل بنائی تھی۔ اسی کے ہر ضلع کو اب دو گنا بڑا کرنا ہے۔ پہلے اس شکل کو صفائی سے کاٹ کر ایک بڑے سفید کاغذ پر چپکالو۔ کاغذ کم از کم 40cm لمبا اور 25cm چوڑا ہو۔

شکل کے تقریباً درمیان میں ایک چھوٹا سا ضرب (x) کا نشان بنالو۔ اس نشان سے تم کو تمام کونوں کے نقطوں کو ملانا ہے اور ان کی دوری ناپی ہے۔

مثال کے طور پر شکل-4 کو دیکھو۔ فرض کرو کہ اس مثلث (a, b, c) کے ہر ضلع کو ڈھائی گنا بڑا کرنا ہے۔



شکل-4

(18) پیمانہ کیا منتخب کرنا ہوگا؟

مثلث کے اندر ایک (x) کا نشان لگایا گیا ہے۔ پھر کونے کے تینوں نقطوں a, b, c اور x کو اس نشان سے ملا گیا ہے۔ (x) سے a نقطے کی دوری ناپی گئی۔ پھر اسے ڈھائی گنا کر کے اسی سیدھے میں آگے بڑھا دیا گیا۔ یعنی 'oa' گیا ہے۔

کی لمبائی  $oa$  کے مقابلے ڈھائی گنا ہے۔ اسی طرح  $x$ -سے  $b$  اور  $c$  تک کی دوری کو ناپ کر انہیں بھی ڈھائی گنا بڑھادیا گیا۔ جب تینوں نئے کونے بن گئے تو انہیں خط مستقیم سے جوڑ کر بڑا مشتملث 'a'b'c' بنالیا گیا۔  
 اب اسی طریقے سے مشتملث-1 میں دیے گئے خاکے کے ہر ضلع کو دو گنا بڑا دکھاؤ۔

(19) کھیت کا نقشہ بنائیں:

اب باہر چل کر ایک کھیت کا نقشہ بنائیں گے۔ یعنی کھیت کی شکل کو چھوٹا کر کے ایک کاغذ پر بنانا۔ پیانہ وھیان سے منتخب کیا جائے گا۔

پیانے کا انتخاب:

فرض کرو کہ تمہیں  $m$  20 لمبے اور  $m$  16 چوڑے کھیت کا نقشہ بنانا ہے۔ اس کے لئے تمہارے پاس ایک گراف کاغذ ہے جس کی لمبائی  $24\text{cm}$  اور چوڑائی  $20\text{cm}$  ہے۔ اس کے لئے تم کھیت پر  $1\text{m}$  کی دوری کو گراف کاغذ پر  $1\text{cm}$  بناسکتے ہو۔ لیکن تم کو اپنے نقشے پر لکھنا ہو گا۔

$\text{kھیت پر } 1\text{m} = \text{نقشہ پر } 1\text{cm}$

یہی اس نقشے کا پیانہ کھلائے گا۔ اب جب بھی نقشے سے ہمیں کوئی معلومات حاصل کرنی ہو گی تو ہم اس کے  $1\text{cm}$  کو کھیت کے  $1\text{m}$  کے برابر مانیں گے۔

اگر تمہیں اسی گراف کاغذ پر  $m$  40 لمبے اور  $m$  30 چوڑے ایک کھیت کا نقشہ بنانا ہو تو کیا یہ پیانہ ٹھیک رہے گا؟

(20)


(21) اس کھیت کا نقشہ بنانے کے لئے تم کیا پیانہ منتخب کرو گے؟  
پیانے کا انتخاب کھیت اور کاغذ کی لمبائی چوڑائی کے لحاظ سے ہونا چاہیئے۔

نقشہ کی تیاری:

استاد کے ساتھ کسی کھیت یا کھلی جگہ پر جاؤ۔

اس کے تقریباً مرکز پر ایک نقطہ آغاز منتخب کرو۔ ویسے نقطہ آغاز کو کسی بھی حصے پر منتخب کر سکتے ہیں۔ جہاں نقطہ

آغاز منتخب کیا ہے وہاں ایک اسٹول یا میز رکھ دو۔ اس پر لکڑی کا ایک ہموار چوکو رختہ جالو۔ ایک گراف کاغذ کو اس رختہ پر کنوں سے چپکا دو۔ جس حصے میں نقطہ آغاز منتخب کیا ہو، گراف کاغذ کے تقریباً اس حصے میں ایک نوکیلی پینسل سے (x) کا نشان لگا کر نقطہ آغاز بنالو۔ اس نقطے پر ایک آلپن یا چھوٹی کیل ٹھونک لو۔ اس آلپن یا کیل میں ایک کاغذ کی نلی لگانے سے نقشہ بنانے میں آسانی ہو گی (شکل-5)۔ وھیاں رہے کہ اس پورے تجربے میں تختے پر چپکے گراف کاغذ کی جگہ اور سمت نہ بد لے۔ اب نقشہ بنانے کے لئے تمہاری تیاری پوری ہو گئی ہے۔



شکل-5


(22) اگر تجربے کے دوران گراف کاغذ ہل جائے گا تو نقشے میں کیا گڑ بڑ ہو سکتی ہے؟

نقشے پر نقطہ لگانا:

نقشے پر نقطہ لگانے کے لئے دو باتیں معلوم کرنی ہوں گی۔ ایک تو اس کی سمت اور دوسری نقطہ آغاز سے اس کی دوری۔

کھیت کی میٹر یا میدان کے کنارے پر نقشے میں دکھانے کے لئے کوئی ایک نقطہ منتخب کرو۔ اس نقطے پر ایک ڈنڈی گاڑو یا اپنے ایک ساتھی کو کھڑا کر دو۔ اب نقطہ آغاز پر گڑی ہوئی آلپن کی ایک طرف اپنی آنکھ لگاؤ اور کنارے پر کھڑے ہوئے ساتھی یا گڑی ہوئی ڈنڈی کی طرف دیکھو۔ ایک نوکیلی پینسل کو گراف کاغذ پر ایسے کھڑا کرو کہ نقطہ آغاز والی آلپن، پینسل اور کنارے پر کھڑا ہوا تمہارا ساتھی ہم خط ہوں۔ چونکہ تمہارا نقطہ آغاز اور کنارے پر کھڑا تمہارا ساتھی دونوں ساکن (فکس) ہیں، اس لئے ان تینوں اشیاء کو ایک خط مستقیم میں کرنے کے

لئے تمہیں اپنی پینسل کو ہی گراف کاغذ پر ادھر ادھر کھانا پڑے گا۔ اس نقطے کی تلاش کے لئے تم کا غذ کی نلی میں سے دیکھو گے تو آسانی ہو گی۔ جب تینوں چیزیں ہم خط ہو جائیں تو جس نقطے پر پینسل کھڑی ہو وہاں پر ایک نقطے بنایا کرے اسے ایک چھوٹے دائرے سے احاطہ کر دو (شکل-6)۔ نقطہ آغاز اور اس نقطے کو ملانے والا خط مستقیم پیانے کی مدد سے کھینچو۔ یہ خط نقطہ آغاز سے میٹر کے نقطے کی سمت بناتا ہے۔



شکل-6

فرض کرو کہ تمہیں جس مقام کا نقشہ بنانا ہے اس کا خاکہ شکل-6 کی مانند ہے۔ اگر تمہارے نقطہ آغاز کو X اور نقشے میں دکھانے کے واسطے منتخب کیے گئے کنارے کے نقطے کو a کہا جائے تو تم کو X سے a تک کی دوری ناپی ہو گی۔ ایسا کرنے کے لئے تم میٹر پیانہ یا موٹا دھاگا استعمال کر سکتے ہو۔ فرض کرو کہ X سے a تک کی دوری 16m اور 40cm ہے۔ اتنی بھی دوری گراف کاغذ پر دکھانے کے لئے تمہیں ایک پیانہ لینا ضروری ہو گا۔ مثلاً کھیت پر 1m کی دوری کو نقشے پر 1cm کے برابر لیا جاسکتا ہے۔ اس پیانے کے مطابق X سے a تک کی دوری گراف

کاغذ پر 16.4cm کے برابر ہوگی۔ نقطہ آغاز X سے a کی سمت میں کھینچے گئے خط پر 16.4cm ناپ کر ایک نشان a لگاؤ۔ گراف کاغذ پر بنایا نقطہ تمہارے نقشہ پر کنارے کے نقطہ a کا صحیح مقام فراہم کرتا ہے۔

نشان بنانے کے لئے کنارے پر الگ الگ نقطے منتخب کرو اور ان نقطوں کی سمت اور دوری اوپر بتائے گئے طریقے سے معلوم کر کے نقشے پر دکھاؤ۔ جیسا پہلی بار کیا تھا ویسے ہی نقطوں کو c, b, a, b, c وغیرہ نام دو اور گراف کاغذ کے نقطوں کو بالترتیب a', b', c' وغیرہ نام دو۔

اپنے نقشے پر پیمانہ لکھنا نہ بھولنا۔

کنارے کے نقطے کیسے منتخب کریں :

مختلف نقطوں کا انتخاب مندرجہ ذیل باتوں کو ذہن میں رکھ کر کرو:

(1) اگر کنارا سیدھا ہو تو دونوں سروں کے نقطوں کو نقشے پر دکھانے سے کام چل جائے گا۔ مثلاً شکل-6 میں کنارے کا ab حصہ سیدھا ہے۔ اس لئے اس حصے کے a اور b نقطوں کو نقشے پر دکھا کر اور ان کو خط مستقیم سے ملانے پر ab حصہ بن جائے گا۔ اسی طرح ef, fg اور ga حصوں کو دکھانے کے لئے e, f اور g نقطوں کو دکھانا کافی ہوگا۔

(2) اگر کنارا سیدھا نہیں ہے تو اس پر بقدر ضرورت ایک سے زیادہ نقطے منتخب کرنے ہوں گے۔ مثلاً شکل-6 میں be حصہ گولائی لئے ہوئے ہے۔ اس حصے کو نقشے پر دکھانے کے لئے b اور e نقطوں کے علاوہ کم از کم مزید دو نقطے c اور d بھی لینے ہوں گے۔

کسی حصے میں کتنے نقطے منتخب کرنا ضروری ہیں، اس کا فیصلہ تم اوپر بتائے اصولوں کے مطابق خود کرو۔

نقشے کو پورا کرنے کے لئے گراف کاغذ پر بنے کنارے کے سب نقطوں کو ایک خط سے ملا دو۔ یہی تمہارے منتخب مقام کا نقشہ ہوگا۔

اپنا نقشہ پورا کرو:

تمہارے منتخب مقام میں کنارے کے علاوہ کوئی دوسری ایسی چیزیں ہوں گی جو نقشے میں دکھانے لائق ہیں،

جیے کنوں، مکان، درخت، بجلی کا کھبہ، نالے وغیرہ۔ ان چیزوں کو نقشے میں اسی طرح دکھاؤ جس طرح تم نے کنارے کے نقطوں کو دکھایا تھا یعنی نقطہ آغاز سے ان کی سمت اور دوری معلوم کر کے۔

تمہارا نقشہ کتنا صحیح کتنا غلط:

تمہارا نقشہ صحیح بناء ہے یا نہیں، اس کی جائج کیسے کرو گے؟ ایک آسان طریقہ یونچے دیا گیا ہے۔  
کھیت یا میدان کے کوئی ایسے نقطے منتخب کرو جنہیں تم نے نقشے پر دکھایا ہے، جیسے شکل-6 میں a اور f نقطے منتخب کئے جاسکتے ہیں۔

(23) a اور f کے درمیان کی دوری ناپ کر کاپی میں لکھ لو۔  
اب اپنے نقشے پر a اور f کے درمیان کی دوری سینٹی میٹر میں ناپ کر اپنے منتخب پیانا کے مطابق میٹر میں بدل لو۔

(24) یہ پورا حساب کاپی میں دکھاؤ۔

(25) یہ دوری بھی کاپی میں لکھ لو۔

(26) کیا زمین پر (a) اور (f) کے درمیان دوری نقشے میں (a) اور (f) کے درمیان دوری کے برابر نکلی؟  
اگر ہاں، تو تمہارا نقشہ صحیح بناء ہے۔


اب اپنے نقشے کو کاپی پر چسپاں کرلو۔

(27) اپنے نقشے کا رقبہ معلوم کرو۔

(28) کیا پیانا کی بنیاد پر اب تم کھیت یا میدان کا رقبہ بتاسکتے ہو؟

مشق-2: شکل-7 میں مدھیہ پر دلیش کا نقشہ دیا گیا ہے۔ اس میں مختلف شہروں کے نام لکھے ہیں۔

(29) شہروں کے درمیان دوریاں معلوم کرو۔



شکل 7

گھر پر کرو:

- |            |            |             |            |
|------------|------------|-------------|------------|
| 1. (14,8)  | 2. (13,7)  | 3. (11,9)   | 4. (12,11) |
| 5. (13,12) | 6. (16,12) | 7. (19,10)  | 8. (20,7)  |
| 9. (20,6)  | 10. (18,4) | 11. (18,5)  | 12. (19,6) |
| 13. (18,8) | 14. (16,8) | 15. (15,6)  | 16. (16,0) |
| 17. (14,0) | 18. (13,4) | 19. (13,0)  | 20. (11,0) |
| 21. (11,4) | 22. (8,4)  | 23. (7,0)   | 24. (5,0)  |
| 25. (5,4)  | 26. (4,0)  | 27. (2,0)   | 28. (2,8)  |
| 29. (1,6)  | 30. (2,9)  | 31. (12,11) |            |

ایک چوخانے کا غذ پر مندرجہ ذیل نقطوں کو ظاہر کرو۔

نقطہ (14,8) سے شروع کر کے اسی ترتیب میں انہیں خط مستقیم سے ملاو۔ دیکھو کیا شکل بنتی ہے۔ (30)